

دعاى مجپير

Dua al-Mujjeer



abraar.org
SPIRITUAL LINKS

Designed & Translated
Hayder Shirazi
English & Urdu
Revised May 2017

• کلام خدا

• بڑی شان والی دعا ہے

• حضرت جبرائیل (ع) نے حضرت رسول (ص) کو اس وقت پہنچائی جب آپ مقام ابراہیم (ع) میں نماز ادا کر رہے تھے

• ماہ رمضان کی 13-14-15 میں پڑھے

• گناہوں کی بخشش چاہے وہ بے شمار ہوں

• شفاء، ادائے قرض، فراخی و توانگری اور غم کے دور ہونے کے
کیلئے مفید

- A Great Dua
- Word of the Almighty Allah
- Revealed to the Prophet (s.a.) when he was praying in the Maqaam of Ibrahim (a.s.)
- Recitation of this Dua on 13th 14th 15th of the Month of Ramadhan is a means of forgiveness of sins however numerous in number
- Recommended for cure, poverty, paying of debts, hardships ...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خدا کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے

In the name of Allah,
the Merciful, the Beneficent!

سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُ تَعَالَى يَا رَحْمَنُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے اللہ برتر ہے تو اے رحمن رحم کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Allah!
Exalted are You, O' Beneficent!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا رَحِيمُ تَعَالَيْتَ يَا كَرِيمُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے رَحِيمُ مہربان برتر ہے تو اے کریم
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Merciful!
Exalted are You, O' Generous!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مَلِكُ تَعَالَيْتَ يَا مَالِكُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مَلِكُ بادشاہ برتر ہے تو اے مالک
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Sovereign!
Exalted are You, O' Master!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا قُدُّوسُ تَعَالَيْتَ يَا سَلَامُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے قُدُّوسُ پاک ترین برتر ہے تو اے سلام سلامتی دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Holy!
Exalted are You, O' Peace!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُؤْمِنُ تَعَالَيْتَ يَا مُهَيِّمُنُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُؤْمِنُ امن دینے والے تو برتر ہے اے مُهَيِّمُنُ نگہبان
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Provider of safety!

Exalted are You, O' Guardian!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا عَزِيزُ تَعَالَيْتَ يَا جَبَّارُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے عزیز اے صاحب عزت برتر ہے تو اے جبار صاحب جبروت
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Mighty!
Exalted are You, O' Supreme!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُتَكَبِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَجَبِّرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُتَكَبِّرُ بڑائی والے برتر ہے تو اے مُتَجَبِّرُ اے صاحب جلال
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You
O' Possessor of Every Greatness!
Exalted are You, O' Possessor of Glory!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا خَالِقُ تَعَالَيْتَ يَا بَارِيُّ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے خالق پیدا کرنے والے برتر ہے تو اے باریٰ بنانے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Creator!

Exalted are You, O' Maker!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُصَوِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُقَدِّرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُصَوِّرُ صورت گر تو برتر ہے اے مُقَدِّرُ صاحب تقدیر
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Fashioner!
Exalted are You, O' Maker of Destiny!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا هَادِيَ تَعَالَيْتَ يَا بَاقِيَ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے ہادی ہدایت دینے والے برتر ہے تو اے باقی باقی رہنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Guide!
Exalted are You, O' Everlasting!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا وَهَّابُ تَعَالَيْتَ يَا تَوَّابُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے وَهَّابُ بہت دینے والے برتر ہے تو اے تَوَّابُ توبہ قبول کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' the Most Liberal Giver!

Exalted are You, O' Forgiver!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا فَتَّاحُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَاخُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے فَتَّاحُ کھولنے والے تو برتر ہے اے مُرْتَاخُ راحت دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Solver of difficulties!
Exalted are You, O' Provider of comfort!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدِي تَعَالَيْتَ يَا مَوْلَايَ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے میرے سید سردار برتر ہے تو اے اے میرے مولا
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Master!

Exalted are You, O' Lord!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا قَرِيبُ تَعَالَيْتَ يَا رَقِيبُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے قَرِيبُ نزدیک تر برتر ہے تو اے رَقِيبُ ای اعمال پر ناظر
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Near!
Exalted are You, O' Watchful!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُبْدِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مُعِيدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُبْدِيُّ ابتداء کرنے والے برتر ہے تو اے مُعِيدُ لوٹانے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Originator!
Exalted are You, O' Resurrector!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا حَمِيدُ تَعَالَيْتَ يَا مُجِيدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے حمیدُ حمد کے لائق برتر ہے تو اے مجیدُ شان والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Beloved!

Exalted are You, O' Praised!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا قَدِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَظِيمُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے قدیم سب سے پہلے تو برتر تر ہے اے عظیم بزرگتر
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Eternal!
Exalted are You, O' Magnificent!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا غَفُورُ تَعَالَيْتَ يَا شَكُورُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے غَفُورُ بہت بخشنے والے تو برتر ہے اے شَكُورُ لائق شکر
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Forgiver!

Exalted are You, O' Grateful!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا شَاهِدُ تَعَالَيْتَ يَا شَهِيدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے شاہد گواہی دینے والے تو برتر ہے اے شہید ای گواہ
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Witness!
Exalted are You, O' Evidence!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا حَنَّانُ تَعَالَيْتَ يَا مَنَّانُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے حَنَّانُ محبت والے تو برتر ہے اے مَنَّانُ احسان کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Compassionate!
Exalted are You, O' Benefactor!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا بَاعِثُ تَعَالَيْتَ يَا وَارِثُ
أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے باعثُ اٹھانے والے برتر ہے تو اے وارثُ ای میراث
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Cause!
Exalted are You, O' Inheritance!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُحْيِي تَعَالَيْتَ يَا مُمِيتُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُحْيِي زندہ کرنے والے برتر ہے تو اے مُمِيتُ موت دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Living!
Exalted are You, O' Killer!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا شَفِيقُ تَعَالَيْتَ يَا رَفِيقُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے شفیق مہربانی کرنے والے برتر ہے تو اے رفیق ساتھ دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Kind!
Exalted are You, O' Friend!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا أَنِيسُ تَعَالَيْتَ يَا مُؤْنِسُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے انیسُ ساتھی برتر ہے تو اے مؤنسُ ہمدم و یاور
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Companion!
Exalted are You, O' Confident!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ تَعَالَيْتَ يَا جَمِيلُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے جلیلُ جلالت والے برتر ہے تو اے جمیلُ صاحبِ حسن
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Glorious!
Exalted are You, O' Beautiful!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا خَيْرُ تَعَالَيْتَ يَا بَصِيرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے خَیْرُ خبر رکھنے والے برتر ہے تو اے بَصیرُ دیکھنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' All-Knowing!
Exalted are You, O' All-Seeing!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا حَفِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مَلِيُّ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے حَفِيُّ مہربان تو برتر ہے اے مَلِيُّ بے نیاز
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Benevolent!
Exalted are You, O' Needless!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مَعْبُودُ تَعَالَيْتَ يَا مَوْجُودُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے معبود برتر ہے تو اے موجود حقیقی
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Worshiped!

Exalted are You, O' Present!

Protect us, from the fire O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا غَفَّارُ تَعَالَيْتَ يَا قَهَّارُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے غَفَّارُ بخشنے والے برتر ہے تو اے قَهَّارُ زبردست
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Forgiver!

Exalted are You, O' Supreme & Irresistible!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مَذْكُورُ تَعَالَيْتَ يَا مَشْكُورُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مَذْکُورِ یاد کئے ہوئے برتر ہے تو اے مَشْکُورِ شکر کیے گئے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Remembered!
Exalted are You, O' Grateful!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا جَوَادُ تَعَالَيْتَ يَا مَعَادُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے جَوَادُ بہت زیادہ سخی برتر ہے تو اے مَعَادُ جائے پناہ
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Generous!
Exalted are You, O' Shelter!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا جَمَالَ تَعَالَيْتَ يَا جَلالُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے جَمالُ حسن والے برتر ہے تو اے جَلالُ بزرگی والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Beauty!
Exalted are You, O' Glory!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا سَابِقُ تَعَالَيْتَ يَا رَازِقُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے سابقُ سب سے پہلے برتر ہے تو اے رازِقُ رزق دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Ever-Foremost!
Exalted are You, O' Provider of sustenance!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا صَادِقُ تَعَالَيْتَ يَا فَالِقُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے صادق صاحب صدق برتر ہے تو اے فالق شگافتہ کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Truthful!
Exalted are You, O' Splitter!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا سَمِيعُ تَعَالَيْتَ يَا سَرِيعُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے سَمِيعُ سننے والے برتر ہے تو اے سَرِيعُ تیز تر
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' All-Hearing!

Exalted are You, O' Swift!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا رَفِيعُ تَعَالَيْتَ يَا بَدِيعُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے رفیع برتری والے تو برتر ہے اے بدیع جدت والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Most High!
Exalted are You, O' Creator!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا فَعَّالُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالُ
اجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے فَعَّالُ بڑے فاعل برتر ہے تو اے مُتَعَالُ عالی تر
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Doer!
Exalted are You, O' Exalted!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا قَاضِيَ تَعَالَيْتَ يَا رَاضِيَ
أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے قاضی فیصلہ کرنے والے برتر ہے تو اے راضی ہو جانے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Judge!
Exalted are You, O' Pleased!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا قَاهِرُ تَعَالَيْتَ يَا طَاهِرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے قاهرُ زبردست تو برتر ہے اے طاهرُ پاکیزگی والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Dominant!
Exalted are You, O' Pure!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا عَالِمٌ تَعَالَيْتَ يَا حَاكِمٌ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

پاک ہے تو اے عالمِ صاحب علم برتر ہے تو اے حاکمِ صاحب حکم
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' All-Knowing!
Exalted are You, O' Ruler!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا دَائِمُ تَعَالَيْتَ يَا قَائِمُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے دَائِمُ ہمیشہ رہنے والے برتر ہے تو اے قَائِمُ موجود
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Ever-lasting!
Exalted are You, O' Ever-rising!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا عَاصِمُ تَعَالَيْتَ يَا قَاسِمُ
إِجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے عاصِمُ حفاظت کرنیوالے برتر ہے تو اے قاسِمُ تقسیم کرنی والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Caretaker!
Exalted are You, O' Distributer!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا غَنِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مُغْنِي
أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے غنیٰ تونگر برتر ہے تو اے مغنیٰ تونگر کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Needless!
Exalted are You, Who makes Needless!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا وَفِيُّ تَعَالَيْتَ يَا قَوِيُّ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے وَفِيُّ وفا والے برتر ہے تو اے قَوِيُّ قوت والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Faithful!
Exalted are You, O' Mighty!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا كَافِيَ تَعَالَيْتَ يَا شَافِيَ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے کافی کفایت کرنے والے برتر ہے تو اے شافی شفا دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Self-sufficient!
Exalted are You, O' Curer!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُقَدِّمُ تَعَالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُقَدِّمُ سب سے پہلے برتر ہے تو اے مُؤَخِّرُ سب سے آخر رہنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Who puts First!
Exalted are You, O' Who sets back!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ تَعَالَيْتَ يَا آخِرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے اَوَّلُ سب سے اول برتر ہے تو اے آخِرُ سب سے آخر موجود
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' First!

Exalted are You, O' Last!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا ظَاهِرُ تَعَالَيْتَ يَا بَاطِنُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے ظاہرُ آشکار برتر ہے تو اے باطنُ پوشیدہ
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Seen!
Exalted are You, O' Unseen!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا رَجَاءُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَجَى
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے رَجَاءُ امید برتر ہے تو اے مُرْتَجَى امید گاہ
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Hope!
Exalted are You, Who is invoked!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْمَنِّ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الطُّوْلِ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے ذَا الْمَنِّ صاحب احسان تو برتر ہے اے ذَا الطُّوْلِ صاحب بخشش
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Possessor of favors!
Exalted are You, O' Possessor of all good!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ تَعَالَيْتَ يَا قَيُّوْمُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے حئی زندہ برتر ہے تو اے قیوم پایندہ
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Living!
Exalted are You, O' Lasting!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدُ تَعَالَيْتَ يَا أَحَدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے واحد یگانہ برتر ہے تو اے احد یکتا
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' One!
Exalted are You, O' Single!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدُ تَعَالَيْتَ يَا صَمَدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے سید آقا برتر ہے تو اے صمد بے نیاز
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Allah!
Exalted are You, O' Eternal!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا قَدِيرٌ تَعَالَيْتَ يَا كَبِيرٌ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

پاک ہے تو اے قَدِيرُ صاحب قدرت برتر ہے تو اے کَبِيرُ صاحب کبر
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Mighty!
Exalted are You, O' Great!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا وَالِي تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالَى
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے والی حاکم برتر ہے تو اے مُتَعَالَى ذات عالی
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Governor!
Exalted are You, O' Exalted!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ تَعَالَيْتَ يَا أَعْلَى
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے عَلِيُّ برتر برتر ہے تو اے اَعْلَى سب سے برتر
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' High!
Exalted are You, O' Most High!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا وَليُّ تَعَالَيْتَ يَا مَوْلى
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے وَلىُّ سرپرست تو برتر ہے اے مَوْلى مالک
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Custodian!

Exalted are You, O' Lord!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا ذَارِيُّ تَعَالَيْتَ يَا بَارِيُّ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے ذاریُّ ہوا چلانے والے برتر ہے تو اے باریُّ پیدا کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Creator!

Exalted are You, O' Initiator!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا خَافِضُ تَعَالَيْتَ يَا رَافِعُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے خافِضُ پست کرنے والے برتر ہے تو اے رافعُ برتر کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, Who lowers!
Exalted are You, Who elevates!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُقْسِطُ تَعَالَيْتَ يَا جَامِعُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُقْسِطُ انصاف کرنے والے برتر ہے تو اے جَامِعُ اکٹھا کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, Who Judges with equity!
Exalted are You, Who gathers!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُعِزُّ تَعَالَيْتَ يَا مُدِلُّ
أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُّ

پاک ہے تو اے مُعِزُّ عزت دینے والے برتر ہے تو اے مُدِلُّ ذلت دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, Who dignifies!
Exalted are You, Who defames!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا حَافِظُ تَعَالَيْتَ يَا حَفِيفُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے حَافِظُ حفاظت کرنے والے برتر ہے تو اے حَفِيفُ نگہبان
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Guard!
Exalted are You, Who retains!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا قَادِرُ تَعَالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے قَادِرُ قدرت والے برتر ہے تو اے مُقْتَدِرُ اقتدار والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Mighty!
Exalted are You, O' Capable!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا عَلِيمُ تَعَالَيْتَ يَا حَلِيمُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے عَلِيمُ ای دانا برتر ہے تو اے حَلِيمُ حلم والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' All-knowing!
Exalted are You, O' Forbearing!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا حَكْمُ تَعَالَيْتَ يَا حَكِيمُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے حَکْمُ فیصلہ کرنے والے تو برتر ہے اے حَکِيمُ حکمت والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Adjudicator!

Exalted are You, O' Wise!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُعْطِي تَعَالَيْتَ يَا مَانِعُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُعْطِي عطا کرنے والے تو برتر ہے اے مَانِعُ روک لینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Giver!
Exalted are You, O' Preventer!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا ضَارُّ تَعَالَيْتَ يَا نَافِعُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے ضارُّ نقصان دینے والے برتر ہے تو اے نافعُ نفع دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, Who brings distress!
Exalted are You, Who makes gain!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُجِيبُ تَعَالَيْتَ يَا حَسِيبُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُجِيبُ قبول کرنے والے برتر ہے تو اے حَسِيبُ حساب کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, Who responds!
Exalted are You, O' Reckoner!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا عَادِلُ تَعَالَيْتَ يَا فَاضِلُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے عادِلُ عدل کرنے والے تو برتر ہے فاضِلُ جدا کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Just!
Exalted are You, O' Virtuous!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا لَطِيفُ تَعَالَيْتَ يَا شَرِيفُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے لَطِيفُ لطف کرنے والے برتر ہے تو اے شَرِيفُ عزت والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Merciful!

Exalted are You, O' Noble!

Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا رَبُّ تَعَالَيْتَ يَا حَقُّ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے ربُّ پالنے والے برتر ہے تو اے حَقُّ برحق
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Lord!
Exalted are You, O' Righteous!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مَاجِدُ تَعَالَيْتَ يَا وَاحِدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے ماجد بزرگی والے برتر ہے تو اے واحد یکتا
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Distinguished!
Exalted are You, O' One!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا عَفُوُّ تَعَالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے عَفُوُّ معاف کرنے والے تو برتر ہے اے مُنْتَقِمُ بدلہ لینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Lenient!
Exalted are You, O' Avenger!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا وَاسِعُ تَعَالَيْتَ يَا مُوسِعُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے واسِعُ کشادگی والے برتر ہے تو اے مُوسِعُ کشادگی دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Bountiful!
Exalted are You, O' Plentiful!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا رَوْفُ تَعَالَيْتَ يَا عَطُوفُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے رَوْفُ محبت کرنے والے برتر ہے تو اے عَطُوفُ عطوفت والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Clement!
Exalted are You, O' Affectionate!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا فَرْدُ تَعَالَيْتَ يَا وَثْرُ
أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے فَرْدُ اکیلے برتر ہے تو اے وَثْرُ یگانہ
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Alone!
Exalted are You, O' Single!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُقِيتُ تَعَالَيْتَ يَا مُحِيطُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُقِيتُ ای حافظ برتر ہے تو اے مُحِيطُ احاطہ کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Guardian!
Exalted are You,
Who surrounds everything!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا وَكِيلُ تَعَالَيْتَ يَا عَدْلُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے وَكِيلُ برتر ہے تو اے عَدْلُ انصاف کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Solicitor!
Exalted are You, O' Justice!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُبِينُ تَعَالَيْتَ يَا مَتِينُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُبِينُ روشن تر برتر ہے تو اے مَتِينُ محکم پناہ دے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Manifest!
Exalted are You, O' Persevering!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا بَرُّ تَعَالَيْتَ يَا وَدُودُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے بَرُّ نیکوتر تو برتر ہے اے وَدُودُ محبت والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Pleasant!
Exalted are You, O' Most Beloved!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا يَارَشِيدُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْشِدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے رَشِيدُ ہدایت والے تو برتر ہے اے مُرْشِدُ ہدایت دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Preacher!
Exalted are You, O' Guide!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا نُورُ تَعَالَيْتَ يَا مُنَوِّرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے نور برتر ہے تو اے مُنَوِّرُ نور دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Light!
Exalted are You, O' Illuminator!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا نَصِيرُ تَعَالَيْتَ يَا نَاصِرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے نصیرُ مدد کرنے والے برتر ہے تو اے ناصرُ مددگار
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Ally!
Exalted are You, O' Helper!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا صَبُورُ تَعَالَيْتَ يَا صَابِرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے صَبُورُ برداشت کرنے والے تو برتر ہے اے صَابِرُ صبر کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Patient!
Exalted are You, O' Forbearing!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُحْصِيَ تَعَالَيْتَ يَا مُنْشِئُ
أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُحْصِيَ جمع کرنے والے برتر ہے تو اے مُنْشِئُ پیدا کرنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Counter!
Exalted are You, Who brings about!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا سُبْحَانُ تَعَالَيْتَ يَا دَيَّانُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے سُبْحَانُ پاک و پاکیزہ تو برتر ہے اے دَيَّانُ جزا دینے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Glorious!
Exalted are You, O' Punisher!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا مُغِيثُ تَعَالَيْتَ يَا غِيَاثُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے مُغِيثُ فریادرس تو برتر ہے اے غِيَاثُ فریاد کو پہنچنے والے
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Provides help!
Exalted are You, Who is sought for help!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا فَاطِرُ تَعَالَيْتَ يَا حَاضِرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

پاک ہے تو اے فاطر پیدا کرنے والے تو برتر ہے اے حاضر موجود
پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

Glory be to You, O' Creator!
Exalted are You, O' Present!
Protect us from the fire, O' Protector!

سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْعِزِّ وَالْجَمَالِ
تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَبْرُوتِ وَالْجَلَالِ

پاک ہے تو اے بڑائی اور حسن والے
تو بابرکت ہے اے صاحب اقتدار اور جلالت والے

Glory be to You, O' Possessor of
Honor and Beauty!
Exalted are You, O' Might and Majesty!

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

پاک ہے تو سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے
پاک ہے تو بیشک میں خطا کاروں میں ہوں سے

Glory be to You!

There is no God, but You!

Glory be to You!

Certainly, I have been of those wrongdoers!

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ

پس ہم نے اسکی دعا قبول کی اور ہم نے اسکو رنج سے نجات دی
اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں

So We listened to him,
And delivered him from distress,
And thus, do We deliver the Believers

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ اَجْمَعِيْنَ

اور خدا ہمارے سردار حضرت محمد پر
اور انکی ساری آل پر رحمت فرمائے

And O' Allah!

Send salutations on our master,
Muhammad and his progeny; all of them!

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور ساری تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جو عالمین کا رب ہے

And all praise belongs to Allah;
Lord of the worlds!!

وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کارساز

اور نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہی جو برتر و عظیم اللہ سے ملتی ہے

And Allah is sufficient for us,

And the excellent solicitor,

And there is no movement nor power,

but From Allah, the Most High and the Great!!

دعاى مجپير

Dua al-Mujjeer



abraar.org
SPIRITUAL LINKS

Designed & Translated
Hayder Shirazi
English & Urdu
Revised May 2017